

Fourth meeting of BRICS Sherpas and Sous Sherpas

December 15, 2021

برکس شیرپا اور سوس شیرپا کا چوتھا اجلاس

15 دسمبر، 2021

برکس شیرپا اور سوس شیرپا نے 15 دسمبر 2021 کو سال 2021 کے دوران ہندوستان کی صدارت میں اپنی چوتھی اور اختتامی میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کی صدارت سکریٹری (سی پی وی اینڈ او آئی اے) جناب سنجے بھٹاچاریہ نے ہندوستان کے برکس شیرپا کے طور پر کی۔

2- اس اجلاس نے اس سال منعقد ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا۔ اپنی صدارت کے لیے، ہندوستان نے 'برکس@15: انٹرا برکس تعاون برائے تسلسل، استحکام اور اتفاق رائے' کا موضوع منتخب کیا تھا جس کے ترجیحات درج ذیل ہیں (i) -کثیر الجہتی نظام کی اصلاح؛ (ii) انسداد دہشت گردی تعاون؛ (iii) پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے ڈیجیٹل اور تکنیکی حل کا استعمال؛ اور (iv) عوام سے عوام کے مابین تبادلے کو بڑھانا۔

3- تیرہویں برکس سربراہی اجلاس 9 ستمبر 2021 کو ورچوئل فارمیٹ میں منعقد ہوا۔ قائدین نے دہلی اعلامیہ کو اپنایا جس نے کووڈ وبائی مرض سے لڑنے کے ان کے عزم کا اعادہ کیا، اور سیاسی، سلامتی، اقتصادی اور ثقافتی محاذوں پر برکس ممالک کی مشترکہ کوششوں کو گہرا کیا اور برکس کو نئی جان بخشی۔

4- برکس وزرائے خارجہ نے جون 2021 میں اپنی میٹنگ میں کثیر الجہتی نظام کو مضبوط بنانے اور اس میں اصلاحات لانے کے مشترکہ بیان کو اپنایا تاکہ عالمی طرز حکمرانی کو مزید جوابدہ اور چست، موثر، شفاف، جمہوری، نمائندہ اور رکن ممالک کے سامنے جوابدہ بنایا جا سکے۔ برکس کی نظرثانی شدہ شرائط کو ستمبر 2021 میں شیرپاس نے اپنایا جس میں تمام سطحوں پر برکس ممالک میں اتفاق رائے پر مبنی کام کرنے کے طریقوں کو برقرار رکھنے اور مزید مضبوط کرنے کے لئے برکس ممالک کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

5- اس سال کے دوران، تقریباً 150 برکس میٹنگز اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں سے تقریباً 20 وزارتی سطح پر منعقد ہوئے۔ انٹرا برکس تعاون کو نئے شعبوں تک بڑھایا گیا، جس میں افتتاحی برکس ڈیجیٹل ہیلتھ سمٹ اور برکس آبی وزراء کی پہلی میٹنگ شامل ہیں۔

6- ہندوستان کی صدارت کے دوران دیگر درج ذیل کامیابیاں شامل ہیں۔ جیسے کہ برکس انسداد دہشت گردی ایکشن پلان، زرعی تحقیق کے پلیٹ فارم کو فعال کرنا، ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کنسٹیلیٹیشن کے میدان میں تعاون کے معاہدے پر دستخط، کسٹمز معاملات میں تعاون اور باہمی انتظامی مدد پر برکس

معاهدے کو حتمی شکل دینا، اور انسانی استعمال کے لیے طبی مصنوعات کے ضابطے کے شعبے میں تعاون پر معاهدے کو حتمی شکل دینا۔

7- برکس شیرپا اور سوس شیرپا میٹنگ کے دوران، برکس گیول اور ہینڈ اور رپورٹ چین کے حوالے کر دی گئی۔ چین نے اپنی برکس چیئر شپ کے لیے اپنی ترجیحات بھی پیش کیں جس کا آغاز یکم جنوری 2022 سے ہوگا۔

8- برکس ممالک کے شراکت داروں نے 2021 میں ہندوستان کی برکس کی چیئر شپ کی تعریف کی۔ انہوں نے کووڈ-19 پابندیوں کی رکاوٹوں کے باوجود شروع کی گئی سرگرمیوں کی تعریف کی، جس کی وجہ سے تسلسل، استحکام اور اتفاق رائے کے اصولوں کو تقویت دیتے ہوئے برکس ممالک کے مابین تعاون کو مزید تقویت ملی ہے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ برکس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ہمارے ممالک اور ہمارے عوام کے باہمی فائدے کے لیے سال کے دوران مضبوط کیا گیا۔ برکس ممالک کے شراکت داروں نے 2022 میں آنے والی برکس چیئر شپ کے لیے چین کو مکمل تعاون فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ ہندوستان نے اپنے برکس شراکت داروں کا اپنے چیئر شپ سال کے دوران ان کی تعمیری رابطوں کے لیے شکریہ ادا کیا، جس کے دوران برکس مزید مضبوط اور متحرک ہوا ہے۔

نئی دہلی

15 دسمبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.